



سوال

(615) زید پانچ بھائی تھے۔ مگر تین بھائی فوت ہو گئے۔ الخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زید پانچ بھائی تھے۔ مگر تین بھائی فوت ہو گئے۔ اس وقت دو بھائی موجود ہیں۔

ہر ایک بھائیوں میں جدائی سے اوقات بسر ہوا۔ ہر ایک الگ الگ مکان میں بستے تھے۔ اور الگ الگ ہی کما تے اور اوقات بسر کرتے تھے۔ اس وقت شدہ بھائی کے دو دو لڑکے ہیں۔ وہ بھی الگ ہی کما تے اوقات بسر کرتے ہیں۔ اور زید کے اس وقت کوئی اولاد نہیں ہے۔ صرف ایک بی بی اور دو لڑکی ہیں۔ زید کا منشاء ہے کہ جتنی جائداد ہے۔ بالکل میری حاصل کردہ ہے۔ وہ سب جائداد ہم اپنے داماد یا لڑکی کے نام سے بیع کر دیں۔ تو ایس کرنا زید کو چاہیے کہ نہیں۔ یا یہ کہ ہر ایک کا حق پہنچتا ہے۔ تو کس کو کتنا دینا چاہیے۔ ہر ایک کا حصہ تفصیل وار بیان کریں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

زید کے وارث لڑکیاں بیوی اور بھائی بھی ہیں۔ لڑکیاں دو ٹلٹ اور بیوی ثمن (آٹھواں) ایک روپیہ میں سے قریباً ساڑھے بارہ آنہ ان کے ہیں۔ باقی ساڑھے تین آنہ بھائیوں کے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شنائیہ امرتسری



محدث فتویٰ